

## نماز اور صحت

ڈاکٹر نبیلہ ظہیر بھٹی

نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ بدنبال عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی باز پرس ہوگی۔ نمازی کو یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور اس کے حکم کی قسمیں میں حاضر ہے اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ عبادات میں سے نماز کی تاکید قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ ہے، لہذا اس کے فوائد و ثمرات بھی دنیا و آخرت میں بہت زیادہ ہیں۔ یوں تو اہل علم نے نماز کے اجتماعی، سماجی، اور اخلاقی فوائد پر کافی گفتگو کی ہے مگر نماز کے صحت سے متعلق فوائد پر سیر حاصل بحث نہیں کی۔ اس مضمون میں نماز کے صحت سے متعلق فوائد و برکات پر مختصر اعرض کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی علوم و معارف میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا، اسلامی عبادات کے اسرار، حکمتیں اور فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ظاہر ہوتے جائیں گے۔

● امراضِ قلب سے حفاظت: نماز کے یوں تو متعدد صحت بخش فوائد ہیں مگر اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو امراض قلب سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسانی دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، یہ اس کا زندگی بھر کا معمول ہے۔ تاہم جب نمازی نماز کے دوران رکوع و وجود کرتا ہے تو اس سے دل کو سہولت و آرام ملتا ہے۔ اس کا بوجھ بلکہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صحت بخش فوائد کا تجزیہ کریں، جو نماز کی بدولت انسان کے دل اور اس کے بدنبال اعضا کو حاصل ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم دل کی کارکردگی اور اس کی اہم سرگرمیوں کو جانیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ دل جسم انسانی کا اہم ترین عضو ہے۔ دل تو اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب انسان ابھی جنین کی صورت میں اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر انسان کی زندگی کے

آخری لحاظات تک دل مسلسل جسم کی تمام اطراف و جوانب میں خون پہنچانے میں مشغول رہتا ہے۔ سینے کی سطح سے بلند جتنے اعضا ہیں، مثلاً سر، ان تک خون پہنچانا دل کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ان تک خون کو دھکلینے کے لیے اسے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تاہم، جب انسان رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دل کے لیے دماغ، آنکھ، ناک، کان اور زبان وغیرہ تک خون پہنچانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان اعضا کا تعلق سر سے ہے اور سر سجدے میں دل سے پست وزیریں سطح پر ہوتا ہے۔ اس حالت میں دل کی سخت مشقت میں کمی اور اس کے کام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دل کو یہ آرام و راحت صرف سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا جب ہم تکمیل پر سر کھکر لیٹتے ہیں تو سر دل سے اوپنچائی کی حالت میں ہوتا ہے لہذا ان صورتوں میں دل کو مکمل آرام نہیں ملتا۔ لیکن سجدے کی حالت میں دل کا کام آسان ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی نشیب کی طرف چلنے میں آرام میں رہتی ہے۔

اس پر ہرگز تعجب نہ ہونا چاہیے کہ دل کو سجدے کی حالت میں اپنی کارکردگی میں جو آسانی اور سہولت ملتی ہے، اس سے دل کے دورے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنا اس دور کی عام پھیلی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک ہے۔ یاد رہے کہ دل جب اپنی مسلسل محنت سے تھک جاتا ہے تو انسان کوستی، کمزوری، اضحکال، سر درد، سر چکرانا، سینے میں درد، بے ہوشی اور خرابی طبیعت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جدید طب میں ان تمام علامات کا علاج یہ ہے کہ دواوں کے ذریعے دل کو سرگرم و مستعد کر دیا جائے۔ دواوں کے ذریعے دل کو یوں مصنوعی طور پر سرگرم و مستعد کرنے کے نتیجے میں کبھی کبھی دل تباہ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کی مکمل بر بادی سے پہلے اس کی طبیعی کارکردگی بتدریج کم زور پڑنے لگتی ہے، مگر رات اور دن میں کئی بار رکوع وجود کرنے والے کا دل بہت سے اوقات میں راحت و آرام پالیتا ہے۔ نمازی کے دل کو ملنے والا یہ آرام، دل کے سخت مشقت کے عمل میں تخفیف (relief) کا سبب بنتا ہے اور خطرات سے بچنے میں دل کی مدد کرتا ہے۔

● دماغ کو تقویت: سجدہ کرنے کے فوائد حاضر دل تک محدود نہیں ہیں بلکہ سجدہ کرنے سے دماغ کو بھی مدد ملتی ہے تاکہ وہ اپنی کارکردگی کو پوری چستی و مستعدی کے ساتھ سرانجام دے سکے۔ مزید برآں یہ کہ سجدہ کرنے سے انسان دماغ کی جریان خون (hemorrhage) سے

نقچ جاتا ہے۔ دماغ سے خون کا یہ بہنا دماغ کی داخلی رگوں کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے بلند فشارِ خون (ہائی بلڈ پریسچر) کا، یا شوگر کی بیماری کا، یا خون میں کولشروع کی مقدار زیادہ ہونے کا، یا ان دیگر اسباب کا جو جدید طرزِ زندگی کے تلخ ثمرات ہیں۔ حتیٰ کہ یہ مرض انسانیت کے لیے انہائی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔

کئی بار سجدہ کرنے والے نمازی کے دماغ کو ایسی قوتِ مدافعتِ مل جاتی ہے کہ وہ دماغ کے جریانِ خون سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں سرینکِ خون زیادہ اور خوب پہنچتا ہے کیونکہ سر دل سے غلی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر نمازی کے دماغ کی شریان کو بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ خون کی ایک بڑی مقدار سجدے کی حالت میں سرینک پہنچتی رہتی ہے۔ یوں دماغ کی شریان کو اتنی قوتِ مل جاتی ہے کہ فشارِ خون کے وقت وہ ہمہ گیر تباہی مچانے والے خون کے گزرنے کو برداشت کر لیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا عمل ہے جیسے مسلسل ورزش، مشقت، ریاضت اور سکرت کرنے سے انسان کے پھونوں کو قوت و طاقت ملتی ہے۔

نماز کے دوران ایسی جسمانی ورزش ہوتی ہے جو تمام لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ نماز کے سجدے اور رکوعِ بدن کے قدرتی وظائف اور ان کی طبیعی کارکردگی میں رکاوٹ نہیں بننے بلکہ نماز کی تمام حرکات — رکوع، تحدود، جلسہ، قیام — انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ نماز میں زندگی کے کسی بھی طبقے اور عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے صحت کا کوئی خطرہ یا نقصان نہیں، بلکہ سراسر فوائد و منافع ہی ہیں۔

● اوقاتِ نماز میں حکمت: پانچوں نمازوں کے اوقات مقرر کرنے میں بھی حکمت ہے۔ انسان جب صبح سویرے نیزد سے بیدار ہوتا ہے تو وہ راحت و نشاط محسوس کرتا ہے، چنانچہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے صرف دور رکعات نماز فرض کیں۔ اس کے سات یا آٹھ گھنٹے بعد تک انسان اپنے کام کا ج میں مصروف رہتا ہے، الہذا اللہ نے اس طویل دورانیے میں کوئی نماز فرض نہیں کی۔ ظہر کے وقت انسان اپنے کام کی وجہ سے ٹکان محسوس کرنے لگتا ہے، اس وقت کے لیے اللہ نے چار فرض مقرر فرمائے ہیں۔ سفن و نوافل اس سے الگ ہیں۔ نمازِ ظہراً کرنے کے تقریباً تین چار گھنٹے بعد نمازِ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، جب کہ عصر کے تقریباً دو گھنٹوں بعد مغرب کی تین رکعات

اواکرنا فرض فرمائیں، اور مغرب کے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے بعد عشاء کی چار رکعات فرض ہیں۔

ان اوقات کو گہری نظر سے دیکھنے پر ہم پر یہ بات واشگاف ہوگی کہ ان پانچ اوقات میں وقوف کے تھوڑا زیادہ ہونے کا تعلق انسان کی تھکاوٹ اور چحتی سے ہے۔ دن کے آغاز میں جب جسم انسانی تازہ دم اور آرام میں ہوتا ہے، نماز کی رکعات کی تعداد کم ہوتی ہے۔ دن کے اختتام پر جب انسان تھکاوٹ، اکتاہٹ اور بے چینی زیادہ محسوس کرتا ہے تو اللہ نے اس پر تھوڑے تھوڑے وقوف سے زیادہ رکعات والی نمازیں فرض کی ہیں۔ اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ نماز جسم انسانی کو چست اور تازہ دم رکھتی ہے، جیسے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے باز رکھتی ہے۔

• نماز سے گردوں کی کار کردگی میں مدد: طبی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کھڑے ہونے یا رُش کرنے کی حالت میں، جسم انسانی میں گردوں کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جب کہ سجدے یا لیٹنے کی حالت میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں سائنس دانوں نے یہ حقیقت دریافت کی ہے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی صورتوں میں گردوں کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جب کہ رکوع و تہود کی حالتوں میں یہ بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ سارا دن کھڑے رہنے والوں پر کیے گئے مطالعے سے یہ واضح ہوا ہے کہ ان لوگوں میں گردوں کی طرف خون کے بہاؤ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ نیز کھڑے رہنا ان میں پیشاب کی مقدار کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سجدہ کرتے اور لیٹنے وقت خون کے اس بہاؤ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب گردوں کی طرف خون کی رو میں تیزی ہوتی ہے تو گردوں کے پردوں پر دباؤ پیدا ہوتا ہے اور ان میں خون کی صفائی کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیشاب کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ سجدے کی حالت میں پیشاب کی مقدار کے بڑھنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ گردوں کی جانب خون کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکوع، تہود اور لیٹنے کی حالتوں میں پیشاب بننے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم نماز ادا کرنے سے پہلے پیشاب نہ کریں تو دوران نماز کوفت ہوتی ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرنا موزوں ہو گا کہ رسول اکرمؐ نے پیشاب پاخانہ روک کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ نماز ادا کرنے سے پیشاب بننے کے عمل میں تیزی پیدا ہوتی ہے، جس سے دوران نماز اس طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ نمازی کا خیال نماز سے بالکل ہٹ جاتا ہے۔

● نماز سے شوگر کرنے مرض میں کمی: جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ لینے اور جسم کو ڈھیلا چھوڑنے سے صحت کی ان خرابیوں میں کمی ہوتی ہے جن کا شوگر کے مریضوں کو سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شوگر کے مریض جب طویل مدت تک کھڑے رہتے ہیں تو پیشاب کے ذریعہ ان کے جسموں سے البومن (albumin) کی غاصی مقدار مزید کم ہو جاتی ہے۔ انھیں تھکاوٹ اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لینے کا بھی فائدہ شوگر کے مریضوں کو نماز میں روکنے و وجود سے مل جاتا ہے۔ ایک طبقہ تجربے کے بعد شوگر کے مریضوں نے اپنی جسمانی مکالیف میں، اس وقت راحت اور کمی پائی، جب انھیں بہت تھوڑی مدت کے لیے لینے کا موقع دیا گیا۔ وہ بیکار جنسیں کام کے دوران لینے کا موقع کم ملتا ہے، اگر وہ اس دوران نماز میں ادا کر لیں تو نماز اور مسجدوں کی برکت سے وہ لینے سے بھی زیادہ استراحت کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

ذیابیطس کے مریضوں کو زیادہ دری تک کھڑے رہنا، میہنا اور سخت مشقت کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، وہ کچھ بکلی ورزشیں اور کام کر سکتے ہیں۔ ان بکلی ورزشوں میں سے نمایاں ترین نماز ہے، کیونکہ نماز سے کسی نفس پر اس کی استطاعت و گنجائش کے مطابق ہی ذمہ داری پڑتی ہے۔ نماز کے اجزاء میں سے اہم ترین ہجود ہیں۔ یہ ایک ایسی آسان ورزش ہے جو دل کو کافی آرام پہنچاتی ہے۔ اس سے تمام اعضا تک آسانی سے خون پہنچتا ہے بلکہ سجدہ کرنا تو لینے سے بھی زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ اس سے شوگر کے مرض کی علامات اور شکایات میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بالغاظ دیگر نماز جسمانی ورزش کی تمام اقسام سے افضل ہے۔ نیز نمازوں کو راحت پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔

● نماز اور خواتین: جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ نماز جیسی بدنبال حرکات اور ورزش حاملہ خواتین کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں، جب کہ ایامِ ماہواری میں سے گزرنے والی خواتین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ نمازوں کو جب رکوع و وجود سے کھڑی ہوتی ہے تو رحم کی جانب خون کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلاشبہ حاملہ خاتون کے رحم کو افرخون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جنین کو خوب ن Garland سکے اور جنین کے خون کی آلوگیوں سے صفائی ہو سکے۔ حائضہ اگر نماز ادا کرے تو اس کے رحم کی طرف زیادہ خون جاتا ہے اور یہ ایک بے فائدہ کام ہوگا۔ اگر بالفرض حائضہ نماز پڑھے تو یہ نماز ادا کرنا اس کے بدن کے دفاغی نظام کے خراب ہونے کا سبب بنتا ہے،

کیونکہ خون کے سفید ذرات ضائع ہو جاتے ہیں، جو بدن کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے حائضہ خواتین کو ورزش اور پرمشقت کام کرنا مناسب نہیں۔ دینی لحاظ سے ان پر نماز ادا کرنا حرام ہے کیونکہ جسم کی حرکت سے — بالخصوص رکوع و سجود میں — خون رحم کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور یوں وہ بے مقصد ضائع ہو جاتا ہے اور جسم سے معدنی نمکیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خواتین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایام کی حالت میں آرام کریں اور بہتر غذا استعمال کریں تاکہ ان کے جسم سے خون ضائع نہ ہو اور خون کی کمی سے قیمتی نمکیات رایگاں نہ ہو جائیں۔ دین اسلام نے اسی حکمت کے تحت حائضہ خواتین کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ ان ایام کے آغاز سے پہلے خواتین کو تھکاوت، پشت اور نانگوں میں درد، قبض کی شکایت، اسہال، سر درد اور پیشتاب میں اضافہ وغیرہ کی تکالیف ہوتی ہیں۔ اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ خاتون کو ماہانہ معدنوی سے پہلے غصہ، چھبھلاہٹ، مایوسی، بے چینی اور طریعی میں فرق کا سامنا کرنا پڑے، حتیٰ کہ اس مدت میں میاں بیوی کے مابین لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ نماز کے فوائد ناقابل شمار ہیں، اگر نفیاتی اضطرابات میں بتالوگ نماز ادا کریں تو وہ ان سے نجات پا سکتے ہیں۔

• نماز سے پھیپھڑوں کے امراض سے تحفظ: سجدے کی حالت میں پھیپھڑے کے پہلے حصے کی طرف خون کی ایک بہت بڑی مقدار پیچتی ہے۔ یاد رہے کہ اسے خون کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ سجدوں کی برکت سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ ذرا اس طرف دھیان دیجیے کہ نماز کی ادائیگی ان اوقات میں فرض کی گئی ہے جن میں انسان کام کا ج میں مشغول ہوتا ہے نہ کہ لینے اور نیند کے اوقات میں۔ معلوم ہوا کہ سجدے کرنا پھیپھڑوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سجدوں اور رکوع کی حالت میں خون پھیپھڑوں کی تمام اطراف میں پہنچتا ہے اور لفستان دہ کاربن ڈائی اسکسائیڈ کے بجائے آسکیجن لے کر پھیپھڑوں میں سے گزرتا ہے۔ بلاشبہ نماز جسم کو چستی، چوکی اور تازگی فراہم کرتی ہے۔ سجدے سے پھیپھڑوں کے خون کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ پھیپھڑوں کی طرف روای خون کی بہتات کے راستے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میڈی یکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ پھیپھڑوں میں کینسر کو اس وقت رونما ہونے کا موقع ملتا ہے جب اس کے خلیات کو آسکیجن نہیں مل پاتی۔ علاوہ ازیں پھیپھڑے کے خلیے میں آسکیجن کی کمی دیگر امراض کے ظہور کا سبب بنتی ہے، کیونکہ

پھیپھڑوں کی طرف پہنچنے والے خون میں کمی کی بنا پر قوتِ مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے قبیلہ کس قدر ضروری ہے۔ جب پھیپھڑے کی طرف خون کے بہاؤ میں کمی ہوتی ہے تو پھیپھڑے کے پہلے حصے پر مرضِ سل (ثُبی) حملہ آور ہوتا ہے۔ کیونکہ پھیپھڑوں کی طرف جانے والے جراشیم پھیپھڑے کے درمیانی حصے میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر پھیپھڑے تک وافر مقدار میں خون پہنچانا ممکن ہو تو تمام خلیات سیراب ہوتے ہیں۔ یہ سیرابی، ان خلیات کو قوتِ مدافعت بخشنے کا اہم سببِ بُحْتی ہے۔ سجدے پھیپھڑوں کے خلیوں کو قوتِ مدافعت دیتے ہیں اور انھیں بیماریاں لگانے سے محفوظ بنا دیتے ہیں۔

● بارموزنگ کی مستعدی میں نماز کرنے اثرات: جاپان کی ہیروساکی یونیورسٹی کے مینڈ یکل کالج کے ایک سائنس دان تکالہاشیو یوشی نے پیشاب کے بارے میں اپنے تحقیقاتی مطالعات کے بعد بتایا ہے کہ زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی صورت میں جسم میں ضرر ساں ہارموزن بننے میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب کہ اس حالت میں نفع رسان ہارموزن کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ لینے کی حالت میں مفید ہارموزن کی افزایش برہتی ہے اور نقصان دہ ہارموزن کی تعداد لگتی ہے۔ ان ہارموزن کی بناوٹ میں سجدے کی حالت بھی لینے کی حالت سے ہی مشابہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدوں کی حالت کو اس حالت کی مانند ہی سمجھا جاتا ہے جو جسم کو صحت کے فوائد عطا کرتی ہے اور پھر اس پر زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوتا۔ سجدے قلبِ دماغ، گردوں، پھیپھڑوں اور دیگر تمام اعضا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ بعض منفعت بخش ہارموزن کے بننے سے جسم کو کچھ فائدے ملتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان فجر کے وقت تازگی و نشاط محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں کورٹیسون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے مگر شام کو وہ جسم سے کورٹیسون کے جاتے رہنے سے تھکاوٹ، سُستی، اور اضطراب محسوس کرتا ہے۔ کورٹیسون کی کمی سے انسان اپنی بڑیوں میں بوجھ محسوس کرتا ہے، خون میں کیلیشم بڑھ جاتا ہے اور دانتوں اور بڑیوں کو طاقت فراہم کرنے والے وٹامن کی تخلیل میں گڑبرد ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں خون کی رگوں میں سکڑنے اور سمنئے کی بنا پر کورٹیسون ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فشارِ خون کی حفاظت ہو سکے۔ اگر یہ ہارمون حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کا جسم پر منفی اثر پڑتا ہے۔ انسان گھبراہٹ، بے آرائی، بے چیزی اور غیظ و غضب

میں بنتا ہو جاتا ہے۔

● تہجد کی فضیلت اور دائیں کروٹ سونے کا فائدہ: طبی تحقیقات و مطالعات نے ثابت کر دیا ہے کہ سونے کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں سے سب سے بہتر دائیں کروٹ سونا ہے۔ نبی رحمتؐ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اس طرح وضو کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ انسان جب دائیں جانب لیٹ کر سوتا ہے تو دل کا شمالی حصہ تقریباً چار سنٹی میٹر بلند ہوتا ہے۔ دل سینے میں بالکل عمودی حالت میں واقع نہیں ہے، بلکہ وہ سینے کی نیچے جانب بائیں طرف کو جھکا ہوا ہے، جب کہ دل کی بلند جانب دائیں طرف اور بجے کی مقدار میں ہے۔ لہذا دائیں کروٹ سونا اس بات میں مذکور تا ہے کہ بائیں حصے سے، یعنی دل کے اوپنے حصے سے خون جسم کی تمام اطراف میں شریان کبیر (aorta) کے ذریعے جاری رہے۔

دائیں طرف سونے کی حالت میں — بائیں ہاتھ کے مساوا — تمام اعضاء بدن یا تو دل کی سطح کے برابر ہوتے ہیں یا دل سے نیچے ہوتے ہیں، لہذا خون جسم کے زیادہ تر اجزا میں تیزی اور آسانی کے ساتھ — کشش ثقل کے قانون کی رو سے — جاری ہوتا ہے جس سے جسم کو بہت راحت و سکون ملتا ہے۔ دل کو یہ راحت کھڑے ہونے، بیٹھنے یا چلنے کی حالتوں میں نہیں ملتی کیونکہ ان حالتوں میں دل اس پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان اعضائیک خون پہنچائے جو ۹۰ درجے کے زاویے کی مقدار میں اس سے اوپنے ہوتے ہیں۔ جب ہم نیند سے بیدار ہونے کے بعد نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو خون دائیں اور بائیں دونوں جانب برابر چلتا ہے۔ سجدوں کی حالت میں دل کا عمل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ دل آسانی کے ساتھ خون کو سرتک پہنچاتا ہے، یوں دل کو آرام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ دماغ، پیپر ہڈے اور دل سے مر بوٹ رگیں اور سینے سے اوپر تک واقع تمام اعضاء، سجدے کی حالت میں دل کی سطح سے نیچے ہوتے ہیں، لہذا خون آسانی اور تیزی کے ساتھ ان اعضائیک پہنچتا ہے۔ یوں نماز تہجد نماز گزار کی تدریستی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔

نماز تہجد کے وقت ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ تہجد گزار کو نماز کے کلمات واذکار، خصوصاً قرآن مجید کی آیات میں تدبر، غور و فکر اور تامل کا موقع ملتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غور و فکر سے نفیاتی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں پر سکون ہوتی ہیں۔ غور و فکر سے

شریانوں پر حملے کا احتمال کم ہوجاتا ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ رات کے تین بجے سے لے کر صبح کے پچھے بجے کے مابین جسم انسانی میں، خون میں کورٹیزون کے بلند ہونے سے، اس وقت دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فضا میں اوزون کی موجودگی سے اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ لہذا اس وقت اگر ہم نمازِ تجدید، نمازِ فجر اور تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو جائیں تو ان اعمال کی برکت سے ہم اس دورانی کے مضر اثرات اور ان سے جنم لینے والے مسائل سے نجی سکتے ہیں۔

● نماز اور ذہنی صحت: مسلمان ہمیشہ پر امن رہے ہیں۔ ان کا دین اسلام ہے جس کے معنی ہی سلامتی ہیں۔ مسلمان جب بھی کسی انسان سے ملتا ہے تو اسے السلام علیکم کہہ کر، سلامتی و رحمت کا تکھنہ دیتا ہے۔ جدید تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ نماز تشدید، سختی اور جرام سے باز رکھتی ہے۔ مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ نیک و افر مقدار میں خون پہنچاتا ہے۔ چنانچہ مغرب میں برپا ہونے والے برقی و کیمیا دی عمل میں سجدے سے مدد ملتی ہے۔ اس سے نمازی کو بردا بردا اور سمجھ ملتی ہے، جب کہ سجدہ نہ کرنے والوں کے دماغ اس تروتازگی اور تراوٹ سے خالی اور محروم رہتے ہیں۔ ان کے دل نرمی سے دُور رہتے ہیں۔ نماز انسان کو نہ صرف سختی اور تشدید سے باز رکھتی ہے بلکہ بے حیائی اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہم امتِ مسلمہ اور غیر مسلموں دونوں کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں اور ان میں جرام کی شرح کا موازنہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ امتِ مسلمہ میں مظالم و مکرات کم ہیں، جیسے سود خوری، بدکاری، شراب نوشی، منشیات کا استعمال، استعماریت، لوٹ کھوٹ اور جنسی بے راہ روی، ایڈز وغیرہ۔ یہ تمام مہلک امراض مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان میں بھی وہی نامہاد مسلمان بتلا ہوتے ہیں جو اسلام سے قطعی دور اور غیر اسلامی طرزِ زندگی کے قریب تر ہوتے ہیں۔ امتِ مسلمہ تو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں رافت، نرم دلی، رحمت، عدل اور احسان کی صفات حسنے پائی جاتی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ایمان اور عبادات کی ادائیگی کا سختی، تشدید، خیانت اور دھوکا یہ سب شرک و کفر کے کڑوے چل ہیں۔ یہ انہی دلوں میں اُگتے ہیں جن پر اللہ نے ان کے کفر و تکبر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔